

65853 - قبلہ رخ ہونے کی شرط ساقط ہونے والی حالتیں

سوال

وہ کونسی حالتیں ہیں جن میں قبلہ رخ میں تبدیلی ممکن ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شائد سائل یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کن حالات میں نماز میں استقبال قبلہ ساقط ہوتا ہے، اور قبلہ رخ کی بجائے کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا صحیح ہے۔

" نماز صحیح ہونے کی شروط میں استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا شرط ہے، اس کے لیے بغیر نماز صحیح نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حکم کو تکرار سے بیان کیا ہے:

اور آپ جہاں بھی جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں بھی ہو اپنے چہرے اس کی جانب پھیر لو البقرة (144).

یعنی قبلہ کے رخ کی جانب اپنا رخ کرو۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، چنانچہ کعبہ کو اپنے پیچھے اور اپنا رخ شام کی طرف کرتے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں رہتے کہ اللہ تعالیٰ کب اس کے علاوہ دوسرا حکم ناز فرمائیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے اور استقبال قبلہ کی وحی لے کر جبریل امین علیہ السلام کے نازل ہونے کا انتظار کرنے لگے:

جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب پھیر دینگے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں البقرة (144).

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی مسجد حرام کے رخ کی جانب اپنا رخ کریں،

لیکن اس میں سے تین مسائل مستثنیٰ ہیں:

پہلا مسئلہ:

جب کوئی شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلاً مریض جو اپنا چہرہ قبلہ رخ نہ کر سکتا ہو، تو اس سے اس حالت میں استقبال قبلہ ساقط ہو جائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حسب استطاعت اختیار کرو التغابن (16).

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے:

اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا البقرة (286).

اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے:

" جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو "

صحیح بخاری حدیث نمبر (7288) صحیح مسلم حدیث نمبر (1337)

دوسرا مسئلہ:

جب انسان شدید قسم کی حالت خوف میں ہو، مثلاً دشمن یا کسی درندے یا پھر غرق کر دینے والے سیلاب سے بھاگنے والا شخص، تو یہاں اس کا رخ جس طرف بھی ہو وہ نماز ادا کر لے۔

اس کی دلیل درج ذیل فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی، یا سوار ہی سہی، اور جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے جسے تم جانتے ہی نہ تھے البقرة (239).

یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان:

اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو۔

یہ عام ہے اور کسی بھی قسم کے خوف کو شامل ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور جب تم امن میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے جسے تم جانتے ہی نہ تھے البقرة (239) .

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ترك کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں استقبال قبلہ بھی شامل ہوتا ہے۔

اور مندرجہ بالا دونوں آیتیں احادیث اس پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہ وجوب استطاعت کے ساتھ معلق ہے۔

تیسرا مسئلہ:

دوران سفر گاڑی یا ہوائی جہاز، یا اونٹ وغیرہ پر نفلی نماز میں چنانچہ وہ اس حالت میں جس طرف بھی سواری کا رخ ہو نماز ادا کر سکتا ہے۔ مثلاً وتر، اور قیام اللیل، اور چاشت کی نماز وغیرہ۔

مسافر کو بھی مقیم کی طرح سب نوافل ادا کرنے چاہیں صرف رواتب میں اس کے لیے چھوٹ ہے، مثلاً ظہر اور مغرب اور عشاء کی سنت مؤکدہ ترك کرنے کی اجازت ہے۔

چنانچہ جب وہ سفر کی حالت میں نفل ادا کرنا چاہے تو سواری کا جس طرف بھی رخ ہو نماز ادا کر سکتا ہے، صحیحین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔

چنانچہ ان تین مسائل میں استقبال قبلہ واجب نہیں۔

رہا جاہل کا مسئلہ تو اس کے لیے نماز میں قبلہ رخ ہونا واجب ہے، لیکن اگر وہ قبلہ رخ تلاش کرنے کی کوشش اور جدوجہد کر کے نماز ادا کرے اور بعد میں اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہوگا۔

لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے استقبال قبلہ ساقط ہو گیا ہے، بلکہ اس کے لیے استقبال قبلہ واجب ہے، اور وہ اس رخ کو تلاش کرنے میں حسب وسعت کوشش اور جدوجہد کرے گا، چنانچہ جب وہ بقدر استطاعت تلاش کرے اور بعد میں اسے یہ وجہت غلط معلوم ہو تو ادا کردہ نماز نہیں لوٹائے گا اس کی دلیل وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں قبلہ تبدیل ہونے کا علم نہ تھا اور وہ مسجد قبا میں ایک روز فجر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا:

" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور انہیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے چہرے کعبہ کی طرف کر لیے ان کے چہرے نماز شام کی طرف تھے تو وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (403) صحیح مسلم حدیث نمبر (526) .

حالانکہ کعبہ ان کے پیچھے تھا تو انہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کرنے کے لیے نماز میں ہی گھوم گئے اور اپنی نماز جائی رکھی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا، چنانچہ یہ مشروع ہو گا، یعنی اگر انسان جہالت کی بنا پر قبلہ رخ میں غلطی کرے تو اس کی نماز میں اعادہ نہیں ہوگا۔

لیکن اگر اسے صحیح رخ کا علم ہو جائے چاہے دوران نماز ہی معلوم ہو تو اس پر قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے۔

چنانچہ استقبال قبلہ نماز صحیح ہونے کی شروط میں سے ایک شرط ہے تین مواقع کے علاوہ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو گی، یا پھر انسان قبلہ رخ تلاش کرنے کے بعد اجتہاد میں غلطی کر بیٹھے " انتہی۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن عثیمین (12 / 433 - 435)۔

واللہ اعلم .